

اپنے WIC اپائنٹمنٹ پر کیا لے کر آئیں



وفاقی شہری حقوق کے قانون اور ریاست ہائے محکمہ برائے زراعت (USDA) کے شہری حقوق کی شرائط اور پالیسیوں کے مطابق USDA پروگرامز میں حصہ لینے والے یا انتظامیہ میں شامل ہونے والے USDA، اس کی ایجنسیاں، دفاتر، اور ملازمین، اور اداروں پر USDA کی جانب سے منعقد یا فنڈ کردہ کسی بھی پروگرام یا سرگرمی میں قبل شہری حقوق کی سرگرمی کیلئے انتظامی کارروائی یا بدلہ حاصل کرنے کیلئے رنگ و نسل، قومیت، جنس، معذوری، عمر کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنے پر پابندی ہے۔

معذور افراد جنہیں پروگرام کی معلومات کیلئے مواصلت کے متبادل ذرائع درکار ہیں (ناہینا کیلئے تحریر طباعت، بڑی پرنٹ، آڈیو ٹیپ، امریکی علامت زبان، وغیرہ)، کو ان ایجنسی سے (ریاست یا مقام) رابطہ کرنا ہوگا جہاں انہوں نے امداد کیلئے درخواست کی تھی۔ گونگے، سماعت میں تکلیف رکھنے یا بولنے میں معذوری رکھنے والے افراد USDA سے وفاقی ری لے سروس (800) 877-8339 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، پروگرام کی معلومات انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مہیا کی جائے گی۔

امتیازی سلوک کے پروگرام کی شکایت درج کرنے کیلئے، http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html پر حاصل ہونے والا USDA پروگرام کے امتیازی سلوک کی شکایت کا فارم، (AD-3027) مکمل کریں، اور کسی بھی USDA دفتر میں، یا USDA کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھیں اور اس فارم میں پوچھی گئی تمام معلومات فراہم کریں۔ شکایت کے فارم کی نقل کی درخواست کرنے کیلئے، (866) 632-9992 کو کال کریں۔ USDA کو اپنے مکمل شدہ فارم یا خط ارسال کریں بذریعہ:

(1) میل: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

(2) فیکس: (202) 690-7442؛ یا

(3) ای میل: program.intake@usda.gov

دیگر شکایتوں یا منصفانہ سماعت کی درخواست کیلئے رابطہ کریں:

(1) میل: WIC Program Director
NYSDOH, Riverview Center
Room 650, 150 Broadway
Albany, NY 12204

(2) فون: (800) 522-5006 فیکس: (518) 402-7348؛ یا

(3) ای میل: NYSWIC@HEALTH.NY.GOV

اپنے گھرانے کے ہر فرد کے لیے آمدنی کا ایک ثبوت ساتھ لائیں جیسے کہ:

- NYS Medicaid کامن بینیفٹس کا شناختی کارڈ (CBIC) یا Medicaid Managed Care پلان کارڈ مع CIN (کلائنٹ کا شناختی نمبر) WIC کے لیے درخواست دینے والے ہر فرد کے لیے۔
- SNAP (فوڈ اسٹیمٹ) فیصلے کا نوٹس/بیجٹ کا خط مع تاریخیں جس میں گھرانے کے سبھی ممبران کا نام درج ہو
- TANF فیصلے کا نوٹس جس میں گھرانے کے سبھی ممبران کا نام درج ہو
- تنخواہ کی سبھی رسیدیں/ڈائریکٹ ڈپازٹ کی رسیدیں (پچھلے 30 دن) گھرانے کے سبھی کام کر رہے ممبران کے لیے
- گزارہ خرچ/ چائلڈ سپورٹ
- ملازمین کا معاوضہ
- بے روزگاری/معذوری کے وظائف
- بینک اسٹیٹمنٹ
- بچتوں یا نقد اعانت کا استعمال
- ویریفیکیشن آف سرٹیفیکیشن (VOC) کارڈ (شرکت کنندگان کی منتقلی کے لیے)
- اپنا روزگار والوں کے لیے انکم ٹیکس کا ریکارڈ
- کسی دیگر آمدنی کے سلسلے میں اعانت کا خط
- آجر کی جانب سے تحریری بیان
- چھٹی اور آمدنی کا اسٹیٹمنٹ (L & E) (صرف ملٹری کے لیے)
- سوشل سیکیورٹی
- پنشن
- سود/تمسکات کے منافع/رائلیٹیز کا اسٹیٹمنٹ
- رضاعی نگہداشت کا وظیفہ (اگر Medicaid دستیاب نہ ہو)
- اگر آپ کو کوئی آمدنی نہ ہو، تو آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پر دستخط کرنے ہوں گے



Department
of Health

ربائش

اپنی ربائش کا تازہ ثبوت ساتھ لائیں

- کرایے یا رہن کا تازہ دستاویز
- تنخواہ کی تازہ رسید مع پتہ
- پناہ گاہ/عبادت گاہ/سوشل سروسز کی جانب سے ان سرنامہ پر خط
- وفاقی، ریاستی یا مقامی میونسپل ایجنسی کی جانب سے خط یا اسٹیٹمنٹ
- با تصویر شناخت مع حالیہ پتہ
- حالیہ ڈاک مہر، گھرانے کا نام اور گلی کے پتے کے ساتھ ڈاک (مثالیں):
 - یوٹیلیٹی بل
 - سیل فون بل
 - حالیہ ڈاک کی مہر کے ساتھ لفافہ/پوسٹ کارڈ
 - WIC اپائنٹمنٹ کی یاد دہانی
- صرف ملٹری (مثالیں):
 - لیٹر ہیڈ پر کمپنی کمانڈر کی جانب سے خط
 - نیویارک انسٹالیشن سے متعلق ملٹری کے آرڈرز

شناخت

اپنی شناخت کا ثبوت ساتھ لائیں

- بالتصویر شناختی کارڈ (مثالیں):
 - ڈرائیور کا لائسنس یا لرنر پرمٹ
 - غیر ڈرائیور کا شناختی کارڈ
 - ملٹری شناختی کارڈ
 - روزگار کا شناختی کارڈ
 - اسکول کا شناختی کارڈ
- سند ولادت
- بہتسمہ کا ریکارڈ
- شہریت کا دستاویز (مثالیں):
 - پاسپورٹ/ویزا
 - مستقل ربائش کا کارڈ (گرین کارڈ)
 - حاصل کردہ شہریت کی سند
 - شہریت کی سند
- عدالتی دستاویز (مثالیں):
 - گود لینے کے ریکارڈز
 - رضاعی نگہداشت میں رکھے جانے کا خط
 - تولیت کے کاغذات
- نگہداشت صحت فراہم کنندہ یا ٹیکے کا ریکارڈ
- ہسپتال کا ریکارڈ/نومولود کا کریب کارڈ/ہسپتال کا شناختی کڑا (6 مہینے کی عمر تک)
- میکسیکن میٹریکولاکونسولر آئی ڈی کارڈ
- ووٹر رجسٹریشن کارڈ
- سوشل سیکیورٹی کارڈ

WIC میں آپ کا خیر مقدم ہے

ایک ایسا ثبوت لائیں جو دکھاتا ہو کہ آپ WIC

کے زیر خدمت افراد میں سے ایک ہیں

حاملہ خواتین:

- مک(دودھ پلانے والی مائیں اور 6 مہینے سے کم عمر کے بچوں کی مائیں:
- مکمل کردہ اور دستخط شدہ WIC طبی حوالہ کا فارم
- کسی نگہداشت صحت فراہم کنندہ کی جانب سے دستخط شدہ اور تاریخ ڈالا ہوا فارم
- تاریخ کے ساتھ ہسپتال سے چھٹی کے کاغذات

نومولود اور بچے:

- مکمل کردہ اور دستخط شدہ WIC طبی حوالہ کا فارم
- سند ولادت
- بہتسمہ کا ریکارڈ
- ہسپتال اور نگہداشت صحت فراہم کنندہ کا ریکارڈ

